



Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve

June 3, 2018

Release # 20180603-01

FOR IMMEDIATE RELEASE

اتحادی افواج اور شراکت داروں کے "آپریشن رائنڈ اپ" کے دوسرے مرحلے کا آغاز

جنوب مشرقی ایشیا - آج سے ایس ڈی یف نے داعش کی باقیات کو شکست دینے کیلئے شمال مشرقی شام میں زمینی آپریشن "رائنڈ اپ" کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔

دشیشہ کو خالی کرانے کے لئے سپرین ڈیموکریٹک فورسز کو اتحادی افواج زمینی اور فضائی مدد حاصل ہے جس میں سرحد کے نزدیک عراقی معاون افواج کی زمینی اور فضائی مدد بھی شامل ہے۔
داعش جنگجوؤں کے فرار کو روکنے کیلئے عراقی افواج نے سرحد کے اطراف حد بندی کر دی ہے۔
آپریشن رائنڈ اپ کا پہلا مرحلہ یکم مئی کو شروع ہوا تھا اور مئی پندرہ تک اس کے اختتام پر بغوز کے علاقے کو داعش سے آزاد کرالیا گیا۔

متحدہ ٹاسک فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پال ائی فنک دوئم کے مطابق "یہ ایک منظم اور طاقت ور آپریشن ہے جو شمال مشرقی شام میں داعش کی باقیات کو فنا کرنے کیلئے شروع کیا گیا ہے۔" "ہماری اتحادی فوجیں جارحانہ طور پر داعش کی پسپا روایتی فوجوں کے خلاف لڑ رہی ہیں جو کہ پہلے ہی اپنے قائدین کے فرار اور جنگی ناکامیوں کے باعث حوصلے کھو چکی ہیں۔"

مارچ کے مقابلے میں مئی کے مہینے کے فضائی حملوں میں 302 فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہی تعداد اپریل کے مقابلے میں 123 فیصد زیادہ تھی۔ داعش کے کمانڈ اور کنٹرول، اسلحہ کے گوداموں، اسلحہ کے ذخائر، پناہ گاہوں اور تربیت گاہوں کے خلاف حملے جاری ہیں۔ جنرل فنک کے مطابق، "ہم اور ہمارے عراقی اتحادی سرنگوں کے نیٹورک اور زیر زمین و داموں کے خلاف کارروائیاں گڑھے ہیں جہاں داعش والوں نے پناہ لے رکھی ہے۔"

بے انتہائی جانی نقصان کے باوجود داعش کے خلاف جنگ میں مختلف اقوام پر مشتمل ایس ڈی یف کے حوصلے بلند ہیں جو کہ شمال مشرقی شام کے لوگوں کو داعش کے چنگل سے آزاد کرانے کے لئے جدوجہد کر رہی ہیں تاکہ علاقے کے لوگوں کی نسل کشی کو روکا جاسکے۔
سی جے ٹی ایف - او آئی آر داعش کی شکست کے لئے کوشاں ہے تاکہ اسکی جعلی خلافت کا خاتمہ کیا جاسکے اور علاقے میں امن و استحکام کا قیام ممکن بنایا جاسکے۔

- 30 -

CJTF-OIRmedia@mail.mil

COM: U.S. 1-813-529-4636 or in Southwest Asia

COM: 00-965-2221-6340, then dial 430-5193#

www.inherentresolve.mil

www.twitter.com/CJTFOIR

www.facebook.com/CJTFOIR

https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR